

Card for HH Quest : Q 8.9

1. والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں

2. کھیتی باڑی ایک مشکل کام ہے

3. بچہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے

4. بچے سکول میں محنت کرتے ہیں

کہانی

ایک خرگوش تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔
ایک دن وہ پیڑ کے نیچے لیٹا تھا۔
اس نے ایک چیونٹی کو دیکھا۔
چیونٹی بار بار پیڑ پر چڑھتی اور کھانا لے کر نیچے اترتی۔
چیونٹی کو دیکھ کر خرگوش نے سوچا، "چیونٹی بہت چھوٹی
ہے پھر بھی وہ بہت کام کرتی ہے۔
اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھے بھی کام کرنا چاہئے۔"

آسان اقتباس

ندی میں ایک ناؤ ہے
وہ لال رنگ کی ہے
ناؤ دھیرے دھیرے چلتی ہے
سب کو نندی پار لے جاتی ہے

حروف

ث ر ق
ط ع
ث ص ل
ک ٹ

لفظ

کپڑا پھل
طوطا
قلم عورت
صورت کاغذ
ٹماٹر
لال شیر

CARD 2

LA3

Numeracy: حساب کتاب کتاب Numeracy

نمبرز کی پہچان 1-9	نمبرز کی پہچان 10-99	تفریق	تقسیم
<div>5</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>4</div> <div>2</div> <div>9</div> <div>3</div> <div>1</div>	<div>71</div> <div>24</div> <div>92</div> <div>86</div> <div>23</div> <div>79</div> <div>37</div> <div>61</div> <div>58</div> <div>14</div>	<div>63 - 44 _____</div> <div>41 - 13 _____</div> <div>92 - 48 _____</div> <div>71 - 35 _____</div> <div>45 - 26 _____</div> <div>34 - 18 _____</div> <div>43 - 29 _____</div> <div>46 - 17 _____</div>	<div>8 $\sqrt{979}$</div> <div>6 $\sqrt{823}$</div> <div>7 $\sqrt{975}$</div> <div>4 $\sqrt{513}$</div>
بچے کو کہیں کہ کوئی سے 5 نمبر پہچانے۔ ان میں سے 4 نمبرز درست ہونے چاہئیں	بچے کو کہیں کہ کوئی سے 5 نمبر پہچانے۔ ان میں سے 4 نمبرز درست ہونے چاہئیں	بچے کو کہیں کہ کوئی دو سوال حل کرے لیکن وہ دونوں ٹھیک ہونے چاہئیں	بچے کو کہیں کہ کوئی ایک سوال حل کرے لیکن وہ ٹھیک ہونا چاہئے

CARD 3

21	8521	2425
425	12	42
3126	6342	312


1. برائے مہربانی اپنی انگلی نمبر ایکس پر رکھیں

2. برائے مہربانی اپنی انگلی نمبر تین سو بارہ پر رکھیں

3. برائے مہربانی اپنی انگلی نمبر تین ہزار ایک سو اور چھپیس پر رکھیں

A

CARD 4



4. برائے مہربانی گن کر بتائیں کہ اس چارٹ میں کتنی گیندیں ہیں

B

CARD 5

24, 26, _____, 30

5. کون سا نمبر دی گئی خالی جگہ پر آنا چاہئے

C


CARD 6

19, 16, _____, 10

6. کون سا نمبر دی گئی خالی جگہ پر آنا چاہئے

D


CARD 7



7. لڑکی کے پاس 2 سیب ہیں اور اسے 3 سیب اور ملے ہیں۔ اب اس کے پاس کتنے سیب ہیں

E

CARD 8



8. ندا کے پاس 20 روپے ہیں اور اس نے 4 روپے کی آئس کریم خرید لی۔ اب اس کے پاس کتنے پیسے بچے ہیں

F

CARD 9

$$2 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}} \quad .9$$

G

LA5 B----CARD 10

